

## آنکھ میں لینز لگے ہونے سے کیا وضو اور غسل بوجائے گا؟

مجیب: ابو محمد مفتی علی اصغر عطاری مدنی

فتویٰ نمبر: Nor-12213

تاریخ اجراء: 01 ذوالقعدة المحرم 1443ھ / 01 جون 2022ء

### دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

### سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ آنکھ میں لینز لگے ہونے کی صورت میں کیا وضو اور غسل ہو جائے گا؟؟ رہنمائی فرمادیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

جی ہاں! پوچھی گئی صورت میں وضو اور غسل ادا ہو جائے گا، کیونکہ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق وضو اور غسل میں آنکھ کے اندرونی حصے میں پانی پہنچانا فرض یا واجب نہیں۔

چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ”وایصال الماء الی داخل العینین لیس بواجب ولا سنة۔۔۔۔۔ ولا یجب ایصال الماء الی داخل العینین کذا فی محیط السرخسی“ یعنی (وضو میں) پانی کو آنکھ کے اندرونی حصے میں پہنچانا نہ تو واجب ہے اور نہ ہی سنت ہے۔۔۔۔۔ (غسل میں) پانی کو آنکھ کے اندرونی حصے میں پہنچانا واجب نہیں، جیسا کہ محیط السرخسی میں مذکور ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الطہارة، ج 01، ص 13/07، مطبوعہ پشاور، ملتقطاً)

بدائع الصنائع میں ہے: ”وإدخال الماء فی داخل العینین لیس بواجب؛ لأن داخل العین لیس بوجه؛ لأنه لا یواجه إلیه؛ ولأن فیہ حرجاً“ یعنی (وضو میں) آنکھ کے اندرونی حصے میں پانی داخل کرنا کوئی واجب نہیں، کیونکہ آنکھ کے اندرونی حصے میں پانی داخل کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے مزید یہ کہ اس میں حرج بھی ہے۔ (بدائع الصنائع، کتاب الطہارة، ج 01، ص 19، دار الحدیث، قاہرہ)

بہار شریعت میں ہے: ”آنکھوں کے ڈھیلے اور پوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیے کہ مضروب ہے۔“ (بہار شریعت، ج 01، ص 290، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



## *Dar-ul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)*

دارالافتاء  
www.daruliftaahlesunnat.net



[www.daruliftaahlesunnat.net](http://www.daruliftaahlesunnat.net)



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



[feedback@daruliftaahlesunnat.net](mailto:feedback@daruliftaahlesunnat.net)